

Q7. Translate the following Urdu paragraph into English by Keeping in view Figurative/idiomatic expression

بزرگ نے بتایا کہ جنگل کے پار ایک پہاڑ ہے جہاں وہ پھول اگتا ہے جس کی خوشبو سے آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی لوٹ آتی ہے، مگر پہاڑ بہت بلند ہے اور اس پر بے شمار چٹانیں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے پتھر میں جو راستہ روک لیتے ہیں۔ اس پہاڑ پر جانے کے لیے کئی لوگ آئے اور چلے گئے مگر ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو پھول تک پہنچا ہو۔ شاید اس لیے دنیا میں دکھ اور تکلیف ہے اور انسان روشنی کی تلاش میں ہے۔

Translation

The old man told that across the forest, there is a **such a flower blooms** flower which grows, on a mountain **helps to revive the** **lost vision** **who** **the** **fragrance of flower helps** **turn the** **lost** **vision back**. But, the mountain is very high and has a lot of rocky areas, thorny bushes and large big stones, which are the hindrance in the way. Many people come time and again but go back, and none of them **ed** succeed in reaching that flower. Perhaps, this is the reason that world is full of pain and **ed** miseries, and humans are still in search of light.